



## سوال

سوال میں عقیدے کے متعلق سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیائے کرام سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے اور انبیائے کرام معصوم عن الخطا نہیں ہیں؟

## جواب

الحمد لله

انبیائے کرام انسانوں میں سے منتخب اور چنیدہ افراد ہوتے ہیں، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو تبلیغ دین اور لاد اللہ کی دعوت دینے کے لیے منتخب فرمایا، پھر انہی کو شریعت کی تبلیغ کے لیے مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنایا، چنانچہ انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ يُكْفَرُوا بِهَا نُؤَلِّهِمْ أَهْلَهُمْ وَنَجْعَلُ لَهُمْ جُنُودًا مُجَاهِدِينَ

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی۔ اگر یہ کافران باتوں کا انکار کرتے ہیں (تو پروا نہیں) ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں۔ [الانعام: 89]

تو معلوم ہوا کہ انبیائے کرام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے؛ اگرچہ انبیائے کرام بشر ہیں، اور ان کے بشر ہونے کی وجہ سے معصومیت کے متعلق دو چیزیں ہیں:

- دینی تبلیغ میں غلطی سے معصوم۔
- انسانی غلطیوں سے معصوم۔

دینی تبلیغ میں انبیائے کرام غلطی سے معصوم ہیں:

دینی تبلیغ کے حوالے سے انبیائے کرام کو غلطی سے محفوظ رکھا گیا ہے چنانچہ جتنے بھی انبیائے کرام ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کرتے ہوئے ہر قسم کی غلطی سے معصوم ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی وحی میں سے کچھ نہیں چھپاتے اور نہ ہی اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

ترجمہ: اے رسول! جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ اور اللہ آپ کو لوگوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ [المائدہ: 67]

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَنزَلْنَا مِنْهُ بَأْسًا مُبِينًا (٤٥) ثُمَّ لَنَقَطُنَّ مِنْهُ الْخَوَاصِرَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُمْ حَاجِبِينَ

ترجمہ: اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا [44] تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے [45] اور پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ [46] تو تم میں سے کوئی ہمیں اس سے

روکنے والا نہ ہوتا۔ [الحاقہ: 44-47]

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا:

وَمَا يُوعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

ترجمہ: اور وہ غیب کی باتیں بتلانے میں بخیل نہیں ہے۔ [التکویر: 24]

الشیخ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"یعنی وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی وحی کو بیان کرنے میں بخیلی نہیں کرتا کہ کچھ بیان کر دے اور کچھ بیان نہ کرے؛ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل زمین اور اہل آسمان سب کے امین ہیں، آپ نے اپنے رب کے پیغام رسالت کو واضح ترین انداز میں پہنچا دیا، اس کی تبلیغ میں ذرہ کسر نہیں چھوڑی، کوئی غنی ہو یا فقیر، حاکم ہو یا رعایا، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی سب کو پیغام رسالت پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پڑھ قوم میں مبعوث فرمایا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت سب کے سب یہی لوگ ربانی علم تھے، ہر کوئی مختلف علوم سیکھنے کے لیے انہی سے رجوع کرتا تھا۔۔۔" ختم شد

چنانچہ نبی اپنے رب کے دین اور شریعت کی تبلیغ میں چھوٹی یا بڑی کوئی بھی غلطی نہیں کرتا، اس کام میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔

سماحہ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"تمام کے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ سب کے سب انبیائے کرام، اور ان میں سے بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے حوالے سے معصوم عن الخطا تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالنَّبِيُّ إِذَا هَوَىٰ (۱) نَاضِلًا صَاحِبًا جَنَّتُمْ وَنَاغَىٰ (۲) وَنَا يَنْظِنُ عَنِ النَّوَىٰ (۳) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ مُّوحًى (۴) عَلَّمَهُ شَدِيدُ النَّوَىٰ

ترجمہ: ہمارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے۔ [1] کہ تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی غلط راستے پر چلا ہے۔ [3] وہ تو صرف وحی ہے جو اس کی طرف نازل کی جاتی ہے [4] اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ [النجم: 1-5] اس لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی قولی، عملی اور تقریری تبلیغ میں بالکل معصوم ہیں، اس حوالے سے اہل علم میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے۔" ختم شد

اسی طرح پوری امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تمام رسول، پیغام رسالت حاصل کرنے میں بھی مکمل معصوم عن الخطا ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو کچھ بھی وحی فرماتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولتے، سوائے منسوخ قرار دی جانے والی چیزوں کے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پڑھائے گا کہ آپ بھول نہیں پائیں گے، صرف وہی چیز آپ کے دل سے محو ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہی ذمہ داری لی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ فرمائے گا، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

سُنَّكَ فَلَا تَنْسَىٰ (۶) إِلَّا نَاشَاءَ اللّٰهِ

ترجمہ: ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ [6] سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ [الاعلیٰ: 6-7]

ایسے فرمایا:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (۱۷) فَإِذَا قُرَأَتْ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

ترجمہ: یقیناً [آپ کے سینے میں] اسے جمع کرنا اور [پھر آپ کا اسے] پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ [17] پس جب ہم اسے پڑھ چکے تو پھر آپ اسے پڑھیں۔ [القیامہ: 17-18]

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ "مجموع الفتاویٰ" (7/18) میں لکھتے ہیں:

"انبیائے کرام کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات یہ بھی بتلاتی ہیں کہ تمام انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لی ہوئی خبریں آگے بیان کرنے میں بالکل معصوم عن الخطا ہیں؛



اس لیے ان کی بتلائی ہوئی خبر حق ہی ہوتی ہے، اور نبوت کا لغوی معنی بھی یہی ہے۔ نیز اس لفظ میں یہ مفہوم بھی شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب کی خبر میں دیتا ہے، نیز انبیائے کرام بھی لوگوں کو وہی خبر میں ہیئتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کی خبر میں بتلائی ہیں۔ جبکہ رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے پیغام رسالت کی تبلیغ عوام تک پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ "ختم شد

انبیائے کرام کی بشری خطاؤں سے معصومیت :

انبیائے کرام بطور بشر غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس کی کچھ حالتیں ہیں :

1- انبیائے کرام سے کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتے۔

انبیائے کرام سے بعثت سے پہلے یا بعد میں کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ کرنے سے انبیائے کرام معصوم ہوتے ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ "مجموع الفتاویٰ" (319/4) میں لکھتے ہیں :

"یہ موقف کہ انبیائے کرام صرف کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ سے نہیں تو یہ اکثر علمائے اسلام، اور تمام گروہوں کا موقف ہے۔۔۔ یہی موقف اکثر مفسرین، محدثین اور فقہائے کرام کا ہے، بلکہ سلف صالحین، ائمہ کرام، صحابہ عظام اور تابعین وغیرہ سے بھی جو بات مستقول ہے وہ اسی کے موافق ہے۔" ختم شد

2- ایسے امور میں غلطی جو کہ رسالت اور وحی سے تعلق نہیں رکھتے۔

چنانچہ صغیرہ گناہ انبیائے کرام سے یا چند نبیوں سے سرزد ہو سکتے ہیں، اسی لیے اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ انبیائے کرام صغیرہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، اور اگر کوئی گناہ ان سے ہو جائے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری منتہبہ کیا جاتا ہے، اور پھر انبیائے کرام فوری اس سے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔

انبیائے کرام سے صغیرہ گناہ سرزد ہونے اور پھر فوری ان کی طرف سے توبہ کی دلیل :

• سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان :

• وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ [121] ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَبَدَّلَ

• ترجمہ : اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی تو وہ بھٹک گیا۔ [121] پھر اسے اس کے رب نے چنیدہ بنایا تو اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی رہنمائی بھی کی۔ [طہ: 121-122]

[122]

• توبہ بات دلیل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی، اور وہ غلطی پر برقرار نہیں رہے بلکہ فوری توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔

• اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا :

• قَالَ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ هَادُوا إِنَّمَا آتَىٰكُمُ الْبَيْتُ الْحَرَامَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ [15] قَالُوا رَبِّ إِنَّا نُرِيدُكَ وَاللَّهُ نُرِيدُكَ

• ترجمہ : موسیٰ نے کہا : یہ تو شیطانی عمل ہے؛ یقیناً شیطان واضح دشمن ہے۔ [15] اس نے کہا : میرے پروردگار! یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے۔

• تو اللہ نے اسے بخش دیا؛ یقیناً وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ [القصص: 15-16] تو موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہی قبلی کا قتل ہوا تو فوری اپنی غلطی کا

اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ گناہ معاف فرمادیا۔

• اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا : فَاسْتَفْتَرَ رَبَّهُ وَخَرَزَ الْكَلِمَاتِ وَأَتَابَ [23] فَفَعَلْنَا لَهُ ذِكْرًا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ نَّابٍ

• ترجمہ : تو داؤد نے اپنے رب سے بخشش طلب کی اور رکوع کرتے ہوئے نیچے جھک گئے اور اللہ سے رجوع کیا۔ [23] تو ہم نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی، یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب

اور لہجھا ٹھکانہ ہے۔ [23-24]



ایسے ہی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات پر سرزنش فرمائی، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جن میں سے چند یہ ہیں:

- اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا عَلَّلَ اللَّهُ لَكَ تَتَّبِعِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تَزِمُهُ**: اے نبی! آپ اس چیز کو حرام قرار کیوں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے متلاشی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ [التحریم: 1] یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چند امہات المؤمنین کے ساتھ ہونے والا مشہور واقعہ مراد ہے۔

- اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی سرزنش فرمائی تھی، جیسے کہ صحیح مسلم: (4588) میں ہے کہ: "سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جب انہوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: (ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟) تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے نبی! یہ ہمارے بچا زاد اور خاندان کے بیٹے ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، یہ کافروں کے خلاف ہماری قوت کا باعث ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی راہ پر چلا دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: (ابن خطاب! تمہاری کیا رائے ہے؟) کہا: میں نے عرض کی: نہیں، اللہ کے رسول! اللہ کی قسم! میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں اختیار دیں اور ہم ان کی گردنیں اڑادیں۔ آپ عقیل پر علی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیں وہ اس کی گردن اڑادیں اور مجھے فلاں۔۔۔ عمر کے ہم نسب۔۔۔ پر اختیار دیں تو میں اس کی گردن اڑادوں۔ یہ لوگ کفر کے پشوا اور بڑے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی اور جو میں نے کہا تھا اسے پسند نہ فرمایا۔ جب اگلا دن ہوا (اور) میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! مجھے بتائیے، آپ اور آپ کا ساتھی کس چیز پر رو رہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو بھی میں آپ دونوں کے رونے کی بنا پر رونے کی کوشش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (میں اس بات پر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے ان سے فدیہ لینے کے بارے میں میرے سامنے پیش کی تھی، ان کا عذاب مجھے اس درخت سے بھی قریب تر دکھایا گیا)۔۔۔ وہ درخت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا۔۔۔ اور اللہ عزوجل نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں: **نَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّىٰ يُغْنِيَ فِي الْأَرْضِ** (کسی نبی کے لیے (روا) نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون بہائے۔۔۔) اس فرمان تک۔۔۔ **فَلَوْعَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا لَّيْتَابَا** "تو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ غنیمتیں تم نے حاصل کی ہیں۔" [الانفال: 67-69] تو اس طرح اللہ نے ان کے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔"

تو اس حدیث مبارکہ میں واضح ہے کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں معاف کر دینا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ اجتہادی فیصلہ تھا، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح رہنمائی موجود نہ تھی۔

- اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: **يَسَّ وَتَوَلَّى [1] أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى تَرْجَمَهُ**: اس نے تیوڑی پڑھائی اور منہ موڑ لیا۔ [1] کہ اس کے پاس ناپائنا آگیا ہے۔ [عبس: 1-2]

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ "مجموع الفتاویٰ" (320/4) میں لکھتے ہیں:

"جمہور علمائے کرام سے جو کچھ نقل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیائے کرام کو صغیرہ گناہوں پر برقرار نہیں رہنے دیا جاتا، نہ ہی انبیاء خود صغیرہ گناہ پر برقرار رہتے ہیں۔ علمائے کرام یہ بھی نہیں کہتے کہ: انبیائے کرام سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔ امت اسلامیہ کے مختلف فرقوں میں سے سب سے پہلے جس فرقے نے انبیائے کرام کو مطلقاً معصوم عن الخطا قرار دیا اور اس چیز کو بہت زیادہ لہجہ لایہ رافضی فرقہ ہے؛ ان کے ہاں انبیائے کرام کو ہر اعتبار سے معصوم عن الخطا سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ انبیائے کرام سے بھول، سو اور تاویل کی وجہ سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔" ختم شد

ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات گراں محسوس ہو کہ انبیائے کرام سے غلطی کا امکان ہے، اس لیے وہ کتاب و سنت کی نصوص جن میں انبیائے کرام سے ہونے والی غلطی کا ذکر ہے وہ ان میں معنوی تحریف کر دیں، ایسے لوگ دو شہادت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں:



پہلا شبہ: اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اتباع اور اقتدا کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ رسولوں کی اتباع کے حکم کا تقاضا ہے کہ انبیائے کرام جو کام بھی کریں وہ قابل اتباع ہو؛ لہذا انبیائے کرام سے صادر ہونے والا ہر فعل، یا اعتقاد اطاعت ہے۔ چنانچہ اگر یہ ممکن ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نافرمانی ہو سکتی ہے تو تناقض پیدا ہو جائے گا؛ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور جبکہ نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اب اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی اتباع کی جائے گی یا نافرمانی ہونے کی وجہ سے اتباع نہیں کی جائے گی؟

یہ شبہ صحیح ہے اور لیکن اس کی جگہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ تب ہوتی جب نافرمانی خفیہ نوعیت کی ہو کہ معصیت اور اطاعت میں تفریق کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غلطی ہونے پر اپنے رسولوں کو فوری متنبہ فرما دیتا ہے، اور پھر انہیں بلا تاخیر توبہ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔

دوسرا شبہ: گناہ صادر ہونا انسان میں کسی ہے جو کہ کمال کے منافی ہے۔ یہ شبہ بھی صحیح ہے لیکن اس وقت جب گناہ کے بعد توبہ نہ کی جائے؛ کیونکہ توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے اور گناہ ہو جانے پر توبہ کر لینا کمال کے منافی نہیں ہے، نہ ہی ایسے گناہ کرنے والے کو ملامت کا نشانہ بنایا جائے گا، بلکہ بہت سے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ کسی بھی نبی سے کوئی بھی گناہ ہو تو وہ توبہ و استغفار میں تاخیر نہیں کرتے، کیونکہ انبیائے کرام کو گناہ پر برقرار نہیں رکھا جاتا، اور نہ ہی انبیائے کرام توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، بلکہ توبہ کرنے کے بعد ان کے کمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

### 3- بعض دنیاوی امور میں غیر ارادی غلطی

مکمل شعور، درست رائے کی صلاحیت، اور قوت بصیرت کے ہوتے ہوئے بعض دنیاوی امور میں غلطی انبیائے کرام سے ہو سکتی ہے، ایسی کچھ غلطیاں بعض انبیائے کرام سے سرزد ہوئی ہیں اور ان میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ایسی کوتاہیاں زندگی کے مختلف شعبہ ہائے زندگی مثلاً: زراعت اور طب وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

جیسے کہ صحیح مسلم: (6127) میں سیدنا رفیع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کھجوروں کی بیوند کاری کر رہے تھے، وہ اپنے اس عمل کو "کھجوروں کو بار آور کرنا" کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: (تم کب سے یہ کام کر رہے ہو؟) تو انہوں نے کہا: ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اگر تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے۔) تو لوگوں نے بیوند کاری پھوڑی دی جس کے نتیجے میں پھل جھڑ گیا یا کم ہو گیا۔ تو اس بات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بشر ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے متعلق حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب میں تمہیں کوئی کام اپنی رائے سے کہوں تو میں بشر ہی ہوں۔

تو ان تمام تر تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیائے کرام وحی کے حوالے سے معصوم عن الخطا ہیں، اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت کے حوالے سے تشکیک پیدا کرنے والوں سے خبردار رہنا چاہیے، ان کے مطابق شرعی احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتادات ہیں!! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے بغیر کچھ کہتے ہی نہیں تھے: **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ**

ترجمہ: وہ اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے۔ [3] وہ تو صرف وحی ہے جو اس کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ [النجم: 1-5]

دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ: (3/194) میں سوال پوچھا گیا:

کیا انبیائے کرام اور رسولوں سے غلطی ہو سکتی ہے؟

تو انہوں نے جواب دیا:

"انبیائے کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی غلطی پر برقرار نہیں رہنے دیتا بلکہ ان پر اور ان کی امت پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں فوری متنبہ فرما دیتا ہے، اور



ان کی توبہ قبول کر کے ان کی غلطی معاف کر دیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے قرآنی آیات میں یہ امور واضح ہیں۔ "ختم شد"

واللہ اعلم

اسلام سوال و جواب

فتویٰ نمبر: 42216